



بیلے غوپ کمیون میں ہڑتال اور تالہ بندی کا اعلان

ڈینش کمیونوں میں ہڑتال اور تالہ بندی اپنی راہ پر ہو سکتی ہے۔ امکانی ہڑتال اور تالہ بندی بیلے غوپ کمیون کو بھی اپنی زد میں لے گی۔

ڈنمارک میں کمیونوں کے محکمہ جات کے معاندوں اور اقرارناموں کی تجدید کے متعلق مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔

لہذا اس ضمن میں پیشہ ورانہ تنظیموں کی ایک تعداد نے ہڑتال کرنے کے متعلق خبردار کیا ہے۔ احتمالی طور پہ یہ اتوار 22 اپریل کی رات اور دن کے آغاز سے عمل پذیر ہوگی۔ اگر ہڑتال ایک حقیقت بن جاتی ہے تو بیلے غوپ کمیون میں بشمول دیگرے فولکے سکولوں، دن میں دیکھ بھال کے اداروں، فری ٹیڈ کلبوں اور بیلے غوپ کے باورچی خانہ (Køkken Ballerup) پر اس کی زد پڑے گی۔

[ہڑتال دائرہ کار اور مجموعی صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے](#) (نئی ونڈو کھولیں)۔

ہڑتال کے نوٹس کی وجہ سے آجروں نے بعد ازاں تالہ بندی کے متعلق خبردار کیا ہے۔ اگر تالہ بندی ایک حقیقت بن جاتی ہے تو یہ بروز ہفتہ 28 اپریل کی رات اور دن کے آغاز سے نافذ العمل ہوگی۔

بیلے غوپ کمیون میں امکانی تالہ بندی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دیگر محکموں کے علاوہ اوپر دیئے گئے ادارہ جات پر زد پڑے گی۔

معمرو لوگوں کی دیکھ بھال کے اداروں، دیکھ بھال کے مراکز، گھر میں آ کر دیکھ بھال کرنے کی سہولت اور بیماروں کی گھر میں دیکھ بھال کے دائرے میں آنے والے زیادہ تر حصہ کے ملازمین تالہ بندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ان سے ملتے جلتے دن میں دیکھ بھال کے خصوصی اداروں اور خصوصی سکولوں کے ملازمین کو بھی استثنا حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ ملازمین جو ایسے مراکز میں کام کرتے ہوں جن میں رہنے والے افراد کمیون اور سہولیات فراہم کرنے والے کاروباری اداروں سے فائدہ اٹھانے کے حاجت مند ہوں ان پر بھی تالہ بندی عائد نہیں ہوگی۔

[تالہ بندی کے دائرہ کار اور مجموعی صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے](#) (نئی ونڈو کھولیں)۔

نوٹ: تاہم مندرجہ بالا تاریخوں سے پہلے مذاکرات کار یہ اعلان کر سکتی ہے کہ اس نے نتیجہ کا حصول ترک کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے فیصلہ کے پانچویں دن تنازعہ شروع ہو سکتا ہے۔

